

4 اپریل 2018

سٹی آف برامپٹن نے کارکردگی کے ڈیش بورڈ کا اجراء کر دیا

برامپٹن، آن - سٹی آف برامپٹن نے کارکردگی رپورٹ ظاہر کرنے والے نئے ڈیش بورڈ کا آغاز کر تے ہوئے اپنی اعلیٰ اور منفرد سوچ کا عملی اظہار کیا ہے۔ یہ نیا [سٹی ڈیش بورڈ 1.0 City Dashboard](#) ایک آن لائن ٹول ہے جس کی مدد سے شہری یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹی کے روزانہ کے اقدامات کس حد تک کمیونٹی کی خواہشات پر پورا اترتے ہیں۔

سروسز، حکمت عملی کے اہداف اور کمیونٹی کی صورت حال کے حوالے سے سٹی ڈیش بورڈ، 6 عدد مرکزی گروہوں کی پیمائش ظاہر کرتا ہے۔ **فنانس اینڈ ایسٹس اور کسٹمر سروس** روزمرہ کے امور کو نمٹانے کے حوالے سے بنیادی اقدامات اور حکمت عملی کے مالی پیمانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ **کمونٹی ویل بیہنگ، لو ایبلٹی اکانومی اور اربن فارم** کمیونٹی پر اثر انداز ہونے والی اور بہتری لانے والی آن چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں جن پر سٹی روزانہ کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔

کیفیت اور گراف کے ساتھ ظاہر کیے جانے والے تمام اقدامات کے ساتھ ایک سرگذشت بھی موجود ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کوئی چیز کیوں اہم ہے، اس کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے اور یہ کہ سٹی کی پراگرس کیا ہے۔ "متعلقہ لنکس" کی ایک سیکشن حکمت عملی کے منصوبے کی ترغیبات، روزمرہ کی سروسز، پروگراموں، نقشہ جات، منصوبہ جات اور مطالعہ جات کا مزید پس منظر بتاتی ہے۔

یہ ڈیش بورڈ سٹی کے کھلے دل اور احتساب کے عزم کو تقویت پہنچاتا ہے۔ میونسپل سروس کی کارکردگی پر نظر رکھنے اور کمیونٹی کی فلاح کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات جدت کی جانب گامزن ہونے میں معاون ثابت ہوں گے اور ایک مربوط شہر کے طور پر آگے بڑھنے میں برامپٹن کے لیے مدد و معاون کردار ادا کریں گے۔

برامپٹن کا سٹی ڈیش یہاں پر دستیاب ہے www.brampton.ca/dashboard۔ چونکہ یہ ورژن 1.0 ہے، لہذا جب سٹی ڈیش کے حصول میں بہتری لانے گا، تو اس میں بھی مزید بہت کچھ اضافہ ہو گا۔ سٹی استعمال کنندگان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے قیمتی تبصروں اور خیالات سے بذریعہ "ڈیش بورڈ فیڈ بیک" بٹن مطلع کریں، جو ڈیش بورڈ کے اندر موجود ہے۔

اقتباسات:

"ہمارے 2016-2018 کے حکمت عملی کے منصوبے میں نشاندہی کی گئی تھی کہ کارکردگی کے ایسے اشاریوں کو فروغ دیا جائے گا جو ہماری کمیونٹی میں شفافیت اور احتساب کے عزم کو ظاہر کریں۔ یہ سمجھنا کہ ہمارا سٹی کہاں پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کن شعبوں میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، ہمیں اپنے رہائشیوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے باہم مربوط ہونے، بہتر قیادت فراہم کرنے اور جدت پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔"

میئر لنڈا جیفری

"غیر معمولی نوعیت کی عوامی سروسز مہیا کرنے کے لیے درکار رفتار، مستعدی اور جوابی ردعمل کی تلاش، مستقبل کے لیے تیاری کی ہماری مسلسل کاوشوں میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلسل بہتری پر پہلے سے زیادہ توجہ مرکوز کرنے، اعلیٰ کارکردگی کے ماحول کے فروغ اور پوری کارپوریشن میں بہتر فیصلہ سازی کو ظاہر کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن کا نیا ڈیش بورڈ ایک دلچسپ و پرجوش طریقہ ہے۔"

ہیری شلینجٹ، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](#) اور [فیس بک](#)۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل
میڈیا کوارڈینیٹر
سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654